



Priority Takaful Plan

Gold

پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ)

پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ) آپ کے معاشی تحفظ، طویل المیعاد بچت اور سرمایہ کاری کی ضرورت کے لئے ہر طرح سے فائدہ مند حل ہے۔ پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ) آپ کے معاشی تحفظ کی ضرورت اور آپ کی بچت میں اضافہ کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ مذکورہ پلان مسلسل بچت کے ذریعے خاندان کے سربراہان کو ان کے پیاروں کے لئے ایک پرسکون اور باعزت زندگی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ پلان فیملی سے متعلق آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پورے دورانیے میں چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جمع کر کے ایک بڑے فنڈ کی طرف لے جاتا ہے۔

مذکورہ پلان 70% تک یونٹ ایلوکیشن کی وجہ سے ایک پرنکس کیش ویلیو فراہم کرتا ہے۔

دیے جانے والے فوائد

انخلاء کے اختیارات:
انڈیکسیشن:

آپ اپنی سرمایہ کاری کو افراط زر سے محفوظ رکھنے کے لیے کنٹریبیوشن یا فیس ویلیو میں سالانہ 5%، 10% یا 15% تک اضافہ کر سکتے ہیں۔

تکمیل (میچورٹی)

ممبر کو اس کے انوسٹمنٹ فنڈ میں موجود کیش ویلیو اور وقف فنڈ میں جمع شدہ سرپلس (اگر ہو تو) ملتا ہے۔

سرپلس کی تقسیم

وقف فنڈ میں اگر سرپلس ہو تو وہ سال کے آخر میں شرکاء کے درمیان ان کے زر تکافل کے اعتبار سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ٹاپ اپ

کسی بھی وقت اضافی کنٹریبیوشن جمع کے اپنے انوسٹمنٹ فنڈ کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ ٹاپ اپ کی کم سے کم مقدار 15000 ہونا ضروری ہے۔

مستقل طور پر رقم نکلوانا

اپنی پوری کیش ویلیو پی آئی ایف (پارٹیسپینٹ انوسٹمنٹ فنڈ) سے کسی اضافی چارجز کے بغیر نکالی جاسکتی ہے۔

جزوی طور پر رقم نکلوانا

پی آئی ایف سے وقتی طور پر یا وقفے وقفے سے رقم نکلائی جاسکتی ہے۔ ممبر شپ کے ایک سال میں چوتھے انخلاء تک کسی قسم کے چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ کم سے کم جزوی انخلاء کی حد 15000 روپے ہیں۔

آپ کے خوابوں کی تکمیل

ایک چھوٹا سا عزم اور ارادہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے طویل مدت تک ساتھ دے سکتا ہے۔


- بچوں کی تعلیم اور شادی
- ریٹائرمنٹ آمدن
- نئے گھر کی خریداری
- حج یا عمرہ کی سعادت
- فیملی تعطیلات
- بچت کے دیگر مقاصد

ضمنی فوائد

پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ) وقف فنڈ میں اضافی کنٹریبیوشن کر کے تحفظ کی سطح کو بڑھانے کا اختیار بھی فراہم کرتا ہے:

- حادثاتی موت کے فوائد
- حادثاتی موت اور معذوری
- مستقل مکمل معذوری یا بیماری
- فیملی آمدن کا فائدہ
- کنٹریبیوشن کی معافی
- موذی امراض
- اضافی ٹرم تکافل
- ہاسپٹل ڈیلی الاؤنس

پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ) کس طرح سے کام کرتا ہے؟



شریک کی جانب سے پاک قطر فیملی تکافل کو وصول ہونے والا کنٹریبیوشن دو اکاؤنٹس یعنی پارٹیسپینٹ انوسٹمنٹ فنڈ (پی آئی ایف) اور وقف فنڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پی آئی ایف میں موجود رقم کی حلال منافع حاصل کرنے کے لیے شریعت سے ہم آہنگ کاروبار میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، وقف فنڈ میں جانے والا کنٹریبیوشن تیرع کی شمار کیا جاتا ہے اور اسے کلیم کی ادائیگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کے انتظام اور وقف فنڈ کی نگرانی سے متعلق فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے میں وکالہ فیس وصول کی جاتی ہے۔ وقف فنڈ میں حاصل ہونے والے سرپلس کو شرکاء کے درمیان سال کے آخر میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک سادہ سی مثال

جناب عبد الرحمن صاحب 35 سال کے ایک خوشحال، شادی شدہ آدمی اور 5 بچوں کے باپ ہیں، ان بچوں کی عمر 5، 7 اور 3 سال ہے۔ پرائیورٹی تکافل پلان (گولڈ) کی خصوصیات اور فوائد کی اسٹریٹجی اس طرح ہے:

مفروضہ تفصیلات:

عمر:	35 سال
ممبر شپ کا دورانیہ:	20 سال
کنٹریبیوشن جمع کروانے کی مدت:	15 سال
سالانہ کنٹریبیوشن:	200,000 (دو لاکھ)
فیس ویلیو:	3,000,000 (تیس لاکھ)
فنڈ کی حکمت عملی:	بیلینسڈ (متوازن) 100%
متوقع بڑھوتری کا تناسب:	8%
قابل اداء فوائد:	

تکمیل کی صورت میں (کیش ویلیو): 6506426

فیس ویلیو اور کیش ویلیو میں سے جو زیادہ ہو۔

وفات کی صورت میں:

انتباہ: ازراہ کرم مذکورہ بالا اسٹریٹجی کو صرف ایک مثال سمجھئے۔ گذشتہ کارکردگی، آئندہ کی کارکردگی کو ظاہر نہیں کرتی۔ مارکیٹ اتار چڑھاؤ نمایاں طور پر مختصر المیعاد کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری کی ویلیو جس طرح بڑھ سکتی ہے اسی طرح کم بھی ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کا رسک شریک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اصل میچورٹی اور سرینڈر ویلیو پیش کردہ اعداد و شمار سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔

ممبر شپ کی خصوصیات

کنٹریبوشن کی حد

200,000 (دو لاکھ) فی سال
کوئی حد نہیں

کم سے کم کنٹریبوشن:
زیادہ سے زیادہ کنٹریبوشن:
پلان لیتے وقت عمر کی حد

تکمیل کے وقت زیادہ سے زیادہ سے عمر: 85 سال

یا

شریک ممبر کی عمر 85 سال ہونے تک پلان جاری رکھا جاسکتا ہے۔